

(vi) Beard the Lion in his den (vii) Groan inwardly (viii) Chicken out

Q. 7. Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative/ idiomatic expression.


(10) عام لوگوں کا خیال ہے کہ ملک کے قانون اور فرد کی آزادی ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ بات غلط معلوم نہیں ہوتی۔ ہر قانون شہریوں پر کوئی نہ کوئی پابندی عائد کرتا ہے۔ اگر ملک میں قوانین کی تعداد زیادہ ہو تو مجموعی پابندیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ زیادہ پابندیوں سے فرد کی آزادی ان کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس قوانین کی تعداد کم ہو تو شہریوں کی آزادی کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔

Translation: [2016 CSS]

Generally, people think that laws of a country and an individual's freedom are adversary to each other. Apparently, it does not seem wrong. Every law imposes some restrictions on citizens.

If the number of laws in a country are more then there are more collective restrictions. Individual's liberty is suppressed because of these more restrictions.

Contrary to this, if laws are less then the scope of freedom of citizens becomes vast.



10

You are allowed to submit only one question in one pdf. The remaining questions may be submitted in separate pdfs.

Punctuation: CSS, 2022

Unfortunately, we often miss a basic school lesson: every big task consists of several small ones, done precisely and perfectly. As a nation, we ~~actually~~ need to learn the art of breaking down our moonlit goals into small accomplishable tasks. It will reduce frustration, anxiety, depression in society and embarrassment for the government machinery too, as they don't have to defend their unkept promises.